

دوا حاصل كرنا



Å skaffe medisinar

✎ Espen Stranger-Johannessen

👤 Sara Rumen Krotev

💬 Yasir Tayyab

📊 2

🗣️ اردو / nynorsk



ڈم کو دانت ڪا درد ٿو. اس ڪو دانت ميں بهت تڪليف ٿو.

...

Tom har tannpine. Han har veldig vondt i ei tann.



اسے اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے ملا ہے، لیکن پہلے اسے درد کے لیے
کسی دوا کی ضرورت ہے۔

...

Han må gå til tannlegen, men først treng han
noko for å dempe smertene.

وہ گڑی پر قریب ترین فرمیسی میں جا رہے۔

...

Han k yrer til n raste apotek.





“مجھے دانت میں درد ہے،” وہ کہتا ہے۔ “کیا آپ کے پاس اس کے
لیے کوئی دوا ہے؟”

...

«Eg har tannpine», seier han. «Har du noko for
det?»



“جی ہاں، یہ درد ختم کرنے والی کچھ ادویات ہیں۔ ان کے لیے آپ کو کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔”

...

«Ja, her er nokre smertestillande tablettar. Du treng ikkje resept for desse.»



”آپ ڪا شڪريه. ان ڪي قيمت ڪيڙي هجي؟“

...

«Tusen takk. Kor mykje kostar dei?»



“ان کی قیمت نو یورو ہے۔ لیکن آپ کو دانتوں کے ڈاکٹر سے ملا
چہیے۔”

...

«Dei kostar ni euro. Men du bør gå til
tannlegen.»



“ٹھیک ہے، میں کل صبح اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کروں
گا۔”

...

«OK, eg skal ringe tannlegen i morgon tidleg.»



“اگر آپ کو بہتر دوا کی ضرورت ہے، تو آپ کو اپنے دانتوں کے
ڈاکٹر سے نسخہ لینے کی ضرورت ہوگی۔”

...

«Viss du treng sterkare medisin, må du ha ein
resept frå tannlegen eller legen din.»



“آپ ګ شكريه! خدا حفظـ.”

...

«Tusen takk! Ha det.»



LIDA Stories


lidastories.net

دوا حاصل کرنا

Å skaffe medisinar

 Espen Stranger-Johannessen

 Sara Rumen Krotev

 Yasir Tayyab (ur), Espen Stranger-Johannessen (nn)

